


FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

**Appeal No.** 729/2024

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	30/05/2024	<p>The appeal of Mr. Asif Ghani presented today by Mr. Rizwanullah Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar 03.06.2024. Parcha Peshi given to the counsel for the appellant .</p> <p>By the order of Chairman  REGISTRAR</p>

**BEFORE THE HON'BLE CHAIRMAN, KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 729 /2024

I. Asif Ghani (Ex-IHC No. 403) Police Station, Akora Khattak, District Nowshera r/o Yar Hussain Mohalla Meethakhel Tehsil Lahore, District Swabi.

**(APPELLANT)**

**VERSUS**

1. The District Police Officer, Nowshera etc

**RESPONDENTS**

**I N D E X**


S.No	Particulars	Annexure	Pages #
1	Service Appeal	-	1-11
2	Affidavit	-	12
3	Copy of application 22-A Cr.PC	A	13-14
4	Copy of order of Addl: Sessions Judge, Nowshera	B	15-16
5	Copy of FIR with better copy	C	17-18
6	Copy of DD No.06 with better copy	D	19-19A
7	Copy of letter of FBR with better copy	E	20-20A
8	Copy of opinion of District Public Prosecutor	F	21
9	Copy of letter to NADRA	G	22
10	Copy of DD No. 37	H	23
11	Copy of application before Sessions Judge, Rawalpindi	I	24-25
12	Copy of inquiry report	J	26-27
13	Copy of Charge Sheet	K	28
14	Copy of Statement of allegations	L	29
15	Copy of reply with better copy	M	30-32
16	Copy of regular inquiry report	N	33-38
17	Copy of show cause notice	O	39
18	Copy of reply with better copy	P	40-42
19	Copy of dismissal order dated 20-03-2024	Q	43
20	Copy of departmental appeal dated 26-03-2024	R	44
21	Copy of compulsory retirement dated 30-04-2024	S	45-46

22	Copy of revision petition	T	47
23	Wakalatnama	—	—



Appellant

Through



Rizwanullah

Advocate High Court, Peshawar

Dated: 28-05-2024

**BEFORE THE HON'BLE CHAIRMAN, KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 729 /2024

1. Asif Ghani (Ex-IHC No. 403) Police Station, Akora Khattak, District Nowshera r/o Yar Hussain Mohalla Meethakhel Tehsil Lahore, District Swabi.

**(APPELLANT)**

**VERSUS**

1. The District Police Officer, Nowshera.
2. The Regional Police Officer, Mardan Region-I, Mardan.
3. The Provincial Police Officer, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

**(RESPONDENTS)**

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KHYBER  
PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT,  
1974 AGAINST THE ORDER DATED 30-04-2024  
PASSED BY THE REGIONAL POLICE  
OFFICER, MARDAN (RESPONDENT NO.2)  
INCAPACITY AS APPELLATE AUTHORITY  
WHEREBY THE DISMISSAL ORDER OF THE  
APPELLANT DATED 20-03-2024 RENDERED  
BY THE DISTRICT POLICE OFFICER  
(RESPONDENT NO. 1) WAS MODIFIED AND  
CONVERTED INTO MAJOR PENALTY OF  
COMPULSORY RETIREMENT. A REVISION  
PETITION UNDER RULE 11-A (4) OF  
KHYBER PAKHTUNKHWA POLICE RULES  
1975 WAS FILED WITH THE PROVINCIAL  
POLICE OFFICER KHYBER PAKHTUNKHWA  
(RESPONDENT NO. 3) ON 07-05-2024 BUT  
THE SAME WAS NOT RESPONDED.**

**Prayer in Appeal**

On the acceptance of instant appeal, the impugned orders dated 20-03-2024 and 30-04-2024 may very graciously be set-aside and the appellant may kindly be reinstated in service with full back wages and benefits.

Any other relief deemed appropriate in the circumstances of the case, not specifically asked for, may also be granted to the appellant.

**RESPECTFULLY SHEWETH,**

**Short facts giving rise to the present appeal are as under:-**

**FACTS**

1. That the appellant joined the services of Police Department incapacity as Constable on 16-02-2022. He rose up to the post of IHC on account of dedication, devotion and sincerity to his job. He had 22 years unblemished service record to his credit.
2. That one Fazal Qadar s/o Madar Khan r/o Khairabad Tehsil Jahengira District Nowshera filed a petition under section 22-A CrPC before the Hon'ble District and Sessions Judge Nowshera praying therein for issuance of directions to the concerned police for registration of FIR against Ikram Rabbani s/o Muhammad Rasheed Siddiqui r/o House No. 69-B New Airport Road, Lahore, Askari 10, Lahore Cantt. for committing fraud with him. He stated in the petition that he was running the business under the name of "Fazal Qadir Marbel Tiles and Grinding Mill" at Khairabad Tehsil Jehangira District Nowshera; he desired to make a new Grinding Mill/factory at Khairabad for which, quotation of Ikram Rabbani and Co. was accepted and they entered into an agreement on 28-09-2020, whereby the latter (Ikram Rabbani) will provide machinery for installation and as such the former paid him Rs. 1,20,00,000/- as advance in presence of witnesses. Nevertheless, Ikram Rabbani neither provided the machinery nor returned the advance payment made to him.

(Copy of petition is appended as Annex-A).

3. That the above petition was entrusted to Mirza Muhammad Kashif, Additional Sessions Judge/Ex-Officio Justice of Peace for disposal. Hon'ble Court after hearing arguments directed the concerned SHO

to proceed with the application filed by the petitioner in accordance with section 154CrPC, register the FIR, initiate investigation and submit *Challan* in accordance with law within stipulated period, positively vide order dated 07-06-2023.

**(Copy of order of ASJ is appended as Annex-B)**

4. In compliance with the directions of Hon'ble Court, FIR No. 524/2023 under sections 419/420PPC was duly registered against Ikram Rabbani and investigation thereof was entrusted to the appellant.

**(Copy of FIR is appended as Annex-C)**

5. That the appellant conducted investigation justly, fairly, honestly and also in accordance with law. He arrested the accused in the area of Surya Khel, Akora Khattak District Nowshera and the same was duly shown and entered in DD No. 6 dated 16-06-2023. Thereafter, he sought necessary information from FBR regarding existence of Firm in the name of Ikram Rabbani but it was confirmed that no such Firm was registered in the said name and in consequence thereto, the DPP added sections 467/471/472PPC in the FIR against the accused keeping in view the fake documents, stamps and unregistered Firm. Besides, the appellant also recovered three CNICs from the accused which were issued in his name and as such, these were sent to NADRA office for confirmation. Nonetheless, when the accused came to know about the legal and sincere efforts of appellant, he not only started to harass and pressurize him but also attempted to undermine his reputation with his superiors by filing a frivolous and baseless complaint before Superintendent of Police, Investigation falsely alleging therein that he was arrested from Rawalpindi but the same was shown within the jurisdiction of Akora Khattak. He further alleged that the appellant seized 03 Army Cards from him and then intentionally misplaced the same. But the fact is that these cards were annexed by Ikram Rabbani accused with his application moved before Hon'ble District & Sessions Judge, Rawalpindi for the restoration of

criminal proceedings in which, he was declared as proclaimed offender as well as for the verification of his specimen signature, while on the other hand he registered a report regarding missing of these cards vide DD No. 37 dated 07-09-2023.

**(Copy of DD No. 6, letter of FBR, opinion of DPP, letter to NADRA, application before Session Judge, Rawalpindi and DD No.37 are appended as Annex-D to I).**

6. That in light of above complaint, Deputy Superintendent of Police, Nowshera was nominated as enquiry officer to probe into the matter and submit report. Accordingly, the enquiry officer conducted enquiry in accordance with law and held the appellant innocent.

**(Copy of enquiry report is appended as Annex-J)**

7. That thereafter, the accused filed another complaint with the Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa (Respondent No. 3) on the same allegations. As a result, Bashir Dad, Deputy Superintendent of Police, CPO Peshawar was appointed as enquiry officer to conduct preliminary enquiry in the matter. He finalized enquiry in blatant disregard of the law, held the appellant guilty of the allegation and recommended him for departmental proceedings. However, the appellant was not provided with the copy of report.

8. That in compliance with the directions contained in DIG/AIB letter No. 1440/CPO/IAB dated 12-09-2023 regarding initiating disciplinary proceedings, the appellant was served with a charge sheet along with statement of allegations.

**(Copy of Charge sheet and statement of allegations are appended as Annex-K & L)**

9. That the appellant submitted reply, denied the allegations and also termed it as fallacious, malicious and misconceived. He besides other

submission, also alleged that he conducted investigation within the four corners of law and prayed that he being innocent may kindly be exonerated from the allegations levelled against him in the charge sheet.

**(Copy of reply is appended as Annex-M)**

10. That the above reply was not found satisfactory and as such Muhammad Suleman, Superintended of Police, Investigation Mardan was appointed as enquiry officer to conduct regular enquiry in the matter against the appellant. He also finalized the enquiry in utter violation of law, marred by numerous imperfections and shortcomings in it. Moreover, there was no shred of evidence linking the appellant with the alleged misconduct. But despite thereof, he disregarded this crucial aspect of the case without any lawful justification and recommended that the appellant be subjected to a major penalty. It was further held that during the process the OII inspector Abd-ur-Rauf and SHO/SI Waqas Khan being immediate officer have failed to fulfil their responsibility. Consequently, their roles were also called into question, and it was recommended that they also be dealt with departmentally.

**(Copy of regular enquiry report is appended as Annex-N)**

11. That the above enquiry report was addressed and placed before the Regional Police Officer (Respondent No 2) on 06-11-2023 who abruptly and without thorough consideration, ordered on the last page of enquiry report, the dismissal of the appellant and imposed minor penalty of censure to OII and SHO. (Enquiry report already annexed as Annex-L above).
12. That the Regional Police Officer (respondent No. 2) lacked the authority to impose such penalty to the appellant under Rule 5 (5) read with Schedule-I of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 and under the said law, the DPO/SSP/SP or anyone of them alone was competent to exercise such powers. However, the former failed to



adhere the above provision of law and unlawfully assumed the role of competent authority.

13. That the Regional Police Officer (Respondent No. 2) served the appellant with a show cause notice on 01-12-2023 under rule 5(3) of KPK Police Rules, 1975. The appellant submitted reply and denied the allegations but the same was not deemed satisfactory and as such he was awarded harsh and extreme penalty of dismissal from service by the District Police Officer (respondent No. 1) on 20-03-2024.

**(Copy of show cause notice, its reply and dismissal order are appended as Annex-O, P & Q)**

14. That the appellant being dis-satisfied by the said order, filed a Departmental appeal with the Regional Police officer, Mardan (Respondent No. 2) on 26-03-2024, who modified and converted the dismissal order into compulsory retirement on 30-04-2024.

**(Copy of departmental appeal and order of compulsory retirement are appended as Annex- R & S).**

15. That thereafter, the appellant filed a revision petition under Rule 11-A(4) of KPK Police Rules, 1975 with the Provincial Police Officer (respondent No.3) on 07-05-2024. But the same was not responded.

**(Copy of revision petition is appended as Annex-T)**

16. That the appellant is jobless since his punishment (compulsory retirement).

17. That the appellant now files this appeal before this Hon'ble Tribunal inter-alia on the following grounds:

### **GROUND S**

- A. That the respondents have not treated the appellant in accordance with the mandate of **Article 4 of the Constitution**

of Islamic Republic of Pakistan, 1973 which has unequivocally laid down that it is the inalienable right of every citizen to be treated under the law, rules and policy. Therefore, the impugned orders are not sustainable in the eye of law.

- B. That Preliminary Inquiry was not conducted in a manner prescribed by law as neither any witness was examined in the presence of appellant nor he was provided any opportunity of cross-examination in order to impeach the credibility of the witnesses if any appeared against him. Similarly, he was also not provided any chance to produce his defence in support of his version. The above defect in inquiry proceeding is sufficient to declare entire process as unlawful and distrustful. Moreover, right of fair trial is a fundamental right by dint of which a person is entitled to a fair trial and due process of law. Nonetheless, the appellant has been deprived of his indispensable fundamental right of fair trial as enshrined in Article 10-A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. Besides, the Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa (respondent No. 3) was not competent under Rule-5(4) read with Schedule-I of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (amended 2014) to initiate disciplinary proceedings against the appellant by constituting preliminary inquiry under the command of Mr. Bashir Dad, Deputy Superintended of Police, CPO Peshawar and the DPO/SSP/SP or any one of them alone was competent to exercise such power under the said law. It is well settled law that when initial order or act relating to initiation of proceedings is illegal and without lawful authority then all subsequent proceedings and actions taken thereon would fall on the ground automatically. Reliance can be placed on the judgment of august Supreme Court of Pakistan reported in 2009-SCMR-339. The relevant citation is reproduced as under: -

2009-SCMR-page-339

Citation-c

---When initial order or act relating of initiation of proceedings was contrary to law and illegal, then all subsequent proceedings and actions taken thereon would have no basis and would fall.

- C. That the nomination/appointment of Muhammad Suleman, SP (investigation) Mardan as enquiry officer was illegal and without lawful authority as the order in such respect was passed by Regional Police Officer (Respondent No. 2) who lacked the competence to do so by virtue of Rule 5 (4) of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975. According to above provision, such orders should be issued by the DPO/SSP/SP, who are the competent authorities in this regard. The above fact of constitution of enquiry officer by the Regional Police Officer (respondent No. 2) was explicitly admitted by Muhammad Azhar, DPO (respondent No. 1) in the impugned order and Muhammad Suleman enquiry officer in his report respectively. Therefore, the impugned order, based on the findings of an illegally constituted enquiry officer, goes against the very essence of the administration of justice.
- D. That the above enquiry was also not conducted in accordance with the procedures prescribed by law as neither complainant (Ikram Rabbani) has any courage to appear in the enquiry and face the appellant and prove the allegations against him without any shadow of doubt nor he was examined or cross-examined by the appellant. It is well settled law that when complainant did not appear in the enquiry to prove allegation then civil servant cannot be punished on the basis of such enquiry. Moreover, every witness brought forth by the department staunchly supported the appellant's position, presenting a compelling case where no evidence was presented

linking the appellant to any offense. However, the appellant's stance was disregarded entirely, and no findings whatsoever were provided on it. This egregious oversight indicates sheer biasness and partiality on the part of the enquiry officer. He has solely relied on the complaint of Ikram Rabbani and was further influenced by the earlier enquiry report of Bashir Dad, DSP, CPO, to which the head of hierarchy, PPO (respondent No. 2) had concurred. This glaringly indicates bias and prejudgment in the proceedings. It may also be mentioned here that so far as the service cards are concerned, these were annexed with the application (in original) filed by Ikram Rabbani in the Court of District & Sessions Judge Rawalpindi for the restoration of criminal proceedings in which, he was declared as proclaimed offender as well as for the verification of his specimen signature. It is also worthwhile to mention here that the accused on the other hand registered a report regarding missing of these cards vide DD No. 37 dated 07-09-2023. The above contradiction in the complaint makes the case of Ikram Rabbani false and dubious. Despite this crucial flaw, the enquiry officer inexplicably overlooked this aspect without any legal justification. Consequently, the impugned orders stand on shaky ground and are untenable under the law.

- E. That it is crucial to highlight that the enquiry officer finalized the enquiry on 06-11-2023 and submitted report before the RPO (Respondent No. 2) who in a hasty and cursory manner ordered on the last page of report for award of dismissal of appellant and imposed minor penalty of censure to OII and SHO. However, it is imperative to note that he was not competent to award such penalty by virtue of Rule 5 (5) read with Schedule-I Khyber Pakhtunkhwa, Police Rules, 1975. According to said provision, only the DPO/SSP/SP or any one of them alone, was competent to exercise such powers as competent authority. Therefore, the actions of Regional Police

Officer (respondent No. 2) were illegal and without lawful authority consequently, the impugned orders are bad in law.

- F. That the issuance of show-cause notice was also illegal and without lawful authority as the Regional Police Officer (respondent No. 2) did not possess the competence to serve such notice on the appellant under Rule 5(3), Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 and the competent authority alone was empowered to undertake such action. Hence, impugned orders are unwarranted by law.
- G. That the Appellate Authority (respondent No. 2) was legally bound to have applied his independent mind to the merit of the case by taking notice about the illegality and lapses committed by the Inquiry Officers as well as by the Competent Authority as enumerated in earlier paras. Nevertheless, he failed to do so and ignored this prime and significant aspect of the case. Therefore, impugned orders are required to be set-aside on this count alone.
- H. That the respondent No.3 was legally bound to have decided the revision filed by the appellant after application of mind with cogent reasons within reasonable time as per law laid down by august Supreme Court of Pakistan reported in 2011-SCMR-1 (citation-b). The relevant citation is as under:

**2011 S C M R 1**

**Supreme Court of Pakistan (citation-b)**

**—S. 24-A—Speaking order—Public  
functionaries are bound to decide cases of their  
subordinates after application of mind with  
cogent reasons within reasonable time.**

But the above Authority failed to do so. Hence, the impugned orders are not warranted by the law.

- I. That the impugned orders are against law, facts of the case and norms of natural justice. Therefore, the same are not tenable under the law.


- J. That the impugned orders are based on conjectures, surmises and suppositions. Hence, the same are against the legal norms of justice.
- K. That the respondents have passed the impugned orders in mechanical manner and the same are perfunctory as well as non-speaking and also against the basic principle of administration of justice. Thus, the impugned orders are bad in law.
- L. That the appellant would like to seek the permission of this Hon'ble Tribunal to advance some more grounds at the time of arguments.

**PRAYER**

In view of the above narrated facts and grounds, it is, therefore, humbly prayed that the impugned orders dated 20-02-2024 & 30-04-2024 may very graciously be set aside and the appellant may kindly be reinstated in service with full back wages and benefits.

  
Appellant

Through

  
Rizwanullah  
M.A. LL.B

Dated: 28-05-2024

Advocate High Court, Peshawar  
Email ID: [advocaterizwanullah@gmail.com](mailto:advocaterizwanullah@gmail.com)  
Mobile No. 0300-596-5843

**BEFORE THE HON'BLE CHAIRMAN, KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. \_\_\_\_\_/2024

1. Asif Ghani (Ex-IHC No. 403) Police Station, Akora Khattak, District Nowshera r/o Yar Hussain Mohalla Meethakhel Tehsil Lahore, District Swabi.

**(APPELLANT)**

**VERSUS**

1. The District Police Officer, Nowshera etc

**RESPONDENTS**

**AFFIDAVIT**

I, Asif Ghani (Ex-IHC No. 403) Police Station, Akora Khattak, District Nowshera r/o Yar Hussain Mohalla Meethakhel Tehsil Lahore, District Swabi, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the accompanied Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

**ATTESTED**



**DEPONENT**





14/07/23  
Branch: ...  
Markim  
ATTESTED



بذریعہ ایجنٹوں کے ذریعہ



-----

تقریباً 100 سے زائد افراد کے ساتھ  
ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ہیں جن میں  
بعض افراد کے ساتھ ہتھیار بھی

3- ایسی حالتوں میں

تعمیرات


کے تحت ایسی حالتوں میں

بعض افراد کے ساتھ ہتھیار بھی

جمع ہوئے ہیں جن میں

2- ایسی حالتوں میں

19/04/2023- مورخہ

2.5.23  


Annex-B

15

**IN THE COURT OF MIRZA MUHAMMAD KASHIF**  
**Additional Sessions Judge-I/Ex-officio Justice of Peace, Nowshera.**

Application U/s 22-A Cr.PC # : 58/6 of 2023


Date of Institution : 02.05.2023

Date of Decision : 07.06.2023

Fazal Qadir S/o Madar Khan R/o Khair Abad, Tehsil Jehangira, District Nowshera.  
Nowshera.

**---VERSUS---**

1. District Police Officer, Nowshera.
2. SHO of Police Station Akora Khattak, District Nowshera.
3. Ikram Rabani S/o Muhammad Rasheed Siddiqui R/o House # 69-B,  
New Airport Road, Lahore, Askari 10, Lahore Cantt.



**(PETITION UNDER SECTION-22-A Cr.PC)**

**ORDER**

07.06.2023

1. Petitioner in person alongwith learned counsel and Mr. Mukhtiar Ahmad learned Dy.PP for the State present.
2. Comments of Police/SHO concerned received and placed on file.
3. Petition in hand for issuance of appropriate directions to respondents # 01 & 02 for registration of FIR against respondent # 03 under relevant section of law is filed by petitioner through counsel.
4. Petitioner, namely, Fazal Qadir S/o Madar Khan R/o Khair Abad, Tehsil Jehangira, District Nowshera moved instant petition U/s 22-A Cr.PC for issuance of appropriate directions to respondents # 01 & 02 for registration of FIR against respondent # 03 under relevant section of law with allegations that on 19.04.2023 he submitted a written application before respondent # 01, against accused/respondent # 03 which was marked to respondent # 02 but till date no action has been taken over it. Allegations levelled in petition are as that petitioner owns and run business of "Fazal Qadir Marble Tiles and Grinding Mill". He entered in an agreement dated 28.09.2020 with respondent # 03 for delivery and installation of machinery for another plant wherein paid Rs.75,00,000/- as advance and Rs.45,00,000/-, total amounting Rs.1,20,00,000/- in presence

**ATTESTED**

Examiner Copying Agency  
Branch. D.S.J. Nowshera

14/5/24

4

7/6/23

of witnesses, however, respondent # 03 neither installed machinery nor ready to repay the money. Civil suit for recovery of money has also been filed which has been decreed in his favour. Respondent # 03 portrait himself as owner of registered firm but later on it has been unearth that he is a fraudster. All documents provided by him were fake and fabricated and respondent # 03 deprived him from huge money through exercise of fraud. Hence, the present petition.

5. On receiving the petition in hand and after hearing preliminary arguments, comments of SHO concerned were sought, who accordingly submitted the same which are available on file for perusal.

6. Arguments heard and available record perused.

7. In light of valuable assistance and perusal of available record pertinent to mention that per comments of local police, respondent # 03 committed fraud with petitioner and deprived him from huge money through exercise of fraudulent means. It is also concluded in comments that local police is ready to take action against respondent # 03 if directed under the law.

8. Thus, without touching other merits of petition, since local police displayed their ascent to initiate legal proceedings after registration of FIR, therefore, petition in hand is hereby accepted. SHO concerned is directed to proceed with application filed by petitioner in accordance with Section 154 Cr.PC, register the FIR, initiate investigation and submit Challan in accordance with law within stipulated period, positively.

9. File be consigned to record room after its necessary compilation and completion.

ANNOUNCED:  
07.06.2023

**ATTESTED**  
Examiner of Copying Agency  
Branch, Q.S.W. Nowshera

14/07/24

*Mirza Muhammad Kashif*  
7/6/23  
Mirza Muhammad Kashif  
Additional Sessions Judge-I/  
Ex-officio Justice of Peace,  
Nowshera.

5

Appeal  
ATTESTED

14-05-2023

PLASI HAFEEZ UD DIN KHATTAN

[Faint, mostly illegible text, possibly a list of items or a narrative]

No.	PLASI HAFEEZ UD DIN KHATTAN	Date
1	[Illegible]	[Illegible]
2	[Illegible]	[Illegible]
3	[Illegible]	[Illegible]
4	[Illegible]	[Illegible]
5	[Illegible]	[Illegible]
6	[Illegible]	[Illegible]
7	[Illegible]	[Illegible]

Annex-C

11

سیریل نمبر: 000981 پریس فارم نمبر 24-5-1) ابتدائی اطلاع رپورٹ نسبت جرم قابل رست اندازی پریس رپورٹ شدہ زبردفعہ 154 مجموعہ ضابطہ نوحداری

نمبر 23/24/524 تھانہ: اکوڑہ ضلع: نوشہرہ ای ٹیک نمبر: 0000  
تاریخ وقت: 25-5-2023 تاریخ وقت: 25-5-2023

1- تاریخ وقت رپورٹ: 14/6/2023 1:30PM  
2- نام و کنونت اطلاع دہندہ مستقیم: محمد ہند نمبر (14)  
3- قصور کیفیت جرم (معدومہ) دال اگر کچھ ہو گیا ہے۔

6- تھانہ سے روانگی کی تاریخ وقت: تکمیل ذراک  
فضل قادر ولد مراد خان: قوم پھان خیر آباد  
شناختی کارڈ نمبر: 7-17201-4768191-7 فون نمبر: 03335248056  
جرم:  
419 روپے  
420 روپے  
خیر آباد  
4- جائے وقوعہ حاصل تھانہ سے درست  
5- کارروائی متعلقہ تفتیش اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا تو اس کی وجہ بیان کی جاوے۔  
درخواست 22A پر مقدمہ درج کیا جاوے۔

دستخط: HAFEEZ UD DIN KHATTAK پبلٹ نمبر: 674/MR عہدہ: PI/ASI تعلقہ: فیصل آباد  
03339066626

(ابتدائی اطلاع نیچے درج کریں)

مستفیث مندرجہ خانہ نمبر 2 نے ایک درخواست زبردفعہ 22A بعد اہل مرزا محمد کاشف ASJ صاحب نوشہرہ دائر کر کے طرہ امر کر رہی ہے۔ مستفیث فضل قادر سے گرانڈنگ مل یکنٹری کیلئے مشینری فراہم کرنے کے سلسلہ میں جنلی فرم جنلی لیٹر پیڈ ز جنلی کوئیشن جنلی میں تیار کر کے دھوکہ فراد سے مبلغ 12000000 روپے بڑپ لئے ہیں۔ درخواست 22A عدالت سے مقدمہ درج رجسٹرڈ کرنے کا حکم صادر فرما کر برخلاف طرہ الام مقدمہ جرم نامہ لا درج رجسٹرڈ کر کے کنٹرول FIR برادقتیش حال اسٹیف پی ASI کیا جاوے۔ درخواست ذیل ہے پر چکر اورش ہے۔ بختم جناب SHO صاحب تھانہ اکوڑہ ضلع نوشہرہ درخواست براد معلومہ رقم سہ سو سو 07-06-2023 جناب مرزا محمد کاشف ایڈیشنل جج نوشہرہ باہت اندراج بختم نہ برخلاف امر کر رہی ہے۔ نندہ ایڈیشنل جج نوشہرہ 690 نندہ ایڈیشنل جج نوشہرہ 20 لا ہو رگنت (انٹرام طلیہ) جناب عالی گزارش ہے کہ سال موشخ خیر آباد کارہائی ہے اور مرصدا سے فضل قادر مدعل ہائکر اور گرانڈنگ مل کے نام سے خیر آباد میں کالو بار کردہ ہے۔ پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں۔ خیر آباد میں ایک نئی گرانڈنگ مل یکنٹری لگانے کی عرض سے انٹرام طلیہ کے ساتھ ایک معاہدہ خیر آباد میں مورس 28-9-2020 کو خیر آباد میں مشینری فراہم کرنے کیلئے پہلے سے دی گئی کوئیشن کے مطابق معاہدہ کیا اور معاہدہ کی رو سے سال کے اثرا طلیہ کو 50% رقم ایڈوانس بیکر ہوا۔ 30% سال کے انٹرام طلیہ کو مشینری کی ڈلیوری اور 20% رقم مشینری کی تحصیب کے ایک ہفتہ بعد ادا کرنے کا پابند تھا۔ سال کے مورس 28-9-2020 کو کل رقم کا 50% مبلغ 7500000 روپے اور مورس 10-10-2020 کو کل رقم کا 30% مبلغ 4500000 روپے کل رقم مبلغ 12000000 روپے کو ادا کیا۔ (1) ملک انڈیا میں ایڈیکٹ (2) نوادہ امر ساکنان خیر آباد خیر آباد میں ادا کرنے لیس رسیدات ادا ہو گئی رقم تلف ہیں۔ لیکن انٹرام طلیہ نے سال کو برخلاف معاہدہ مشینری خیر آباد میں لگا کر دی۔ جس وجہ سے سال نے ایک وٹوئی جنلی جنس برخلاف انٹرام طلیہ بعد اہل جناب سٹریسیول جج صاحب نوشہرہ دائر کیا۔ جو کہ مورس 20-11-2021 کو جزی ڈگری ملی۔ جس کے خلاف ہر دو فریقین سال کو انٹرام طلیہ نے اپیل ہائے بعد اہل ذمہ سٹریسیول جج صاحب نوشہرہ دائر کیا۔ اور سال کی اپیل خارج ہوئی۔ جبکہ انٹرام طلیہ کی اپیل خارج ہوئی۔ انٹرام طلیہ نے ہفتہ معاہدہ اپنے آپ کو کر رہی ہے۔ انڈیا کو رجسٹرڈ فرم ظاہر کیا۔ اور فرم کے لیٹر پیڈ پر معاہدہ کیا جس پر انٹرام طلیہ نے دستخط کئے۔ اور مورس 27-09-2020 کو معاہدہ تحریر کر کے اپنی فرم کے جنلی لیٹر پیڈ پر ہر ثبت کئے۔ جنلی لیٹر پیڈ کے ہر صفحہ پر دستخط رو ہوا۔ گاہان مٹلی برطانیہ شافی کارڈ کئے۔ اور اس روز کوئیشن میں سال کو فرام کی۔ اور اس پر بھی دستخط ثبت کئے۔ جنلی لیٹر پیڈ کے ہر صفحہ پر دستخط اور مورس رو ہوا۔ گاہان ثبت کی۔ اور مورس 28-09-2020 کو خیر آباد میں آکر اپنی وٹو مائیننگ سے جنلی لیٹر پیڈ پر اپنی تحریری ادا ہو گئی اور طریقہ ادا ہو گئی۔ فرام میں ہائے کی اہت دستخط کئے۔ (جس کی کاپی ہند تلف ہے) اور فرم کی ہر لگائی۔ اور مورس 10-10-2020 کو مبلغ 4500000 روپے کی وصولی کی رسید فرم کے جنلی لیٹر پیڈ پر دستخط اور فرم کی جنلی ہر لگا کر سال کو گئے اس طرح انٹرام طلیہ نے دھوکہ دہی اور فراد کر کے سال کے کل رقم 12000000 روپے وصول کئے۔ جب انٹرام طلیہ مشینری فرام نہ کی تو سال نے انٹرام طلیہ اور سال کی اہت سطوات کئے تو سال کے علم میں آیا کہ سال کو فرام کی کوئی فرم رجسٹرڈ نہ ہے۔ اس طرح انٹرام طلیہ نے سال کو تھانہ لگا کر جنلی لیٹر پیڈ فرام بانی ایڈ کو رجسٹرڈ فرم ظاہر بیان کر کے دھوکہ فراد کیا۔ اور ایک مبلغ 12000000 روپے کی رقم سے مخروم کر رہے ہیں اور اب معاہدہ سے مخرف ہو گیا ہے۔ نیز انٹرام طلیہ کو ایک فراد بیا اور نور باز جج کاٹھس ہے جس نے سال اور دیگر سال جیسے شریف لوگوں سے دھوکہ فراد کے کو ویدیم جیتانے کی عرض ہے۔ ملک دوا سے تین عدد شافی کارڈ مختلف دستخطوں سے ہوا ہیں۔ جس بات فراد تک ساتھ لگا یا جا سکتا ہے۔ جس سے سال نے درخواست گزار کی۔ لیکن سال کی درخواست پر کوئی کارروائی نہ ہوئی ہے۔ تو سال نے انٹرام طلیہ کے خلاف درخواست زبردفعہ 22A جناب برادری دائر کی۔ جو کہ جن سال مورس 07-06-2023 کو منظور ہو گئی۔ (فضل درخواست زبردفعہ 22A ض ف و حکم مورس 07-06-2023 لٹف ہذا (جس) اور برخلاف انٹرام طلیہ FIR درج کر کے جنلی کھنی بنا کر جنلی پیڈ جنلی بریک برآمد کی جائے۔ لہذا جناب سے استدعا ہے کہ حکم مورس 07-06-2023 صدر جناب مرزا محمد کاشف ایڈیشنل جج نوشہرہ پر عمل روا کر دے تو ہائے سال کے ساتھ دھوکہ فراد کر کے جنلی کھنی بنا کر جنلی پیڈ جنلی میں ثبت کرنے کی اہت برخلاف انٹرام طلیہ مقدمہ کا اندراج کیا جاوے۔ فضل قادر ولد مراد خان قوم پھان خیر آباد تحصیل جھانگیر و دستخط انگریزی۔ نلس برطانیہ اصل ہے۔

Attested  
Appellant

PI/ASI HAFEEZ UD DIN KHATTAK  
14-06-2023

تھانہ الکرمان دھند 06 نومبر 16/73

دربار مراد آباد (مفتاحی خان) سے وقت 7:10 صبح 16/73  
میں صدر حضور 316 سے تفتیش مندرجہ 524 صبح 16/73  
میں 419-420 تھانہ الکرمان سے تفتیش ہوئی

یہ عدالت  
میں پیش کیا گیا

30-10-23  
38-10-23

10  
1  
1

مذکورہ والی اینڈ من الکرمان (مفتاحی خان) سے وقت 7:10 صبح 16/73  
میں صدر حضور 316 سے تفتیش مندرجہ 524 صبح 16/73  
میں 419-420 تھانہ الکرمان سے تفتیش ہوئی  
یہ عدالت میں پیش کیا گیا  
30-10-23

30-10-23

دور دراز  
دور دراز

Attested  
Appellant

Better copy.

CS CamScanner

197

ضلع نوشہرہ

نقل مد 06 روز نامچہ 16-06-23

تہانہ اکوڑہ

مد 06 روزانگی آصف غنی خان ASI وقت 07:10 مورخہ 16-06-23 میں معہ مسعود 316 بسلسلہ تفتیش مقدمہ علت 524 مورخہ 14-06-23 جرم PPC 419-420 تہانہ اکوڑہ روانہ علاقہ ہوں۔

نقل مد 15 روز نامچہ 16-06-23

مد 15 واپسی / بندش حوالات آصف غنی خان ASI وقت 15:45 مورخہ 16-06-2023 میں معہ ہمراہیان رفتہ بحوالہ مد بالا بعد از فراغت تفتیش مقدمہ علت 524 مورخہ 14-06-2023 جرم 471-472-467-419-420 تہانہ اکوڑہ علاقہ سے واپس آیا دوران تفتیش مغیر خاص نے اطلاع دی کہ مقدمہ ہذا کے نامزد ملزم اکرام ربانی ولد محمد رشید صدیقی سکھ نیو انٹریپورٹ روڈ لاہور کسی کام کے سلسلے میں نوشہرہ آیا ہوا ہے واپس انک صوبہ پنجاب جارہا ہے اطلاق کو مصدقہ جان کر فوراً ہمراہ نیری بمقام سوزیاخیل ہمراہ دیگر نفری ناکہ بندی کر کے ملزم کو مخبر خاص کی نشان دہی پر فلاننگ کوچ سے نیچے اوتار کر جس نے اپنا نام و پتہ درست بتلا کر مقدمہ ہذا میں حسب ضابطہ گرفتار کر کے کارڈ گرفتاری ملزم جاری کی گئی ملزم کے ساتھ کوئی غیر قانونی شے برآمد نہ ہو ملزم کو ہمراہ تہانہ لا کر بند حوالات تہانہ کیا گیا کل بشرط زندگی روبرو علاقہ محسنریب صاحب پیش کیا جائیگا دیگر خیریت گوری۔

Attested  
A. Popellanti

Profile Inquiry

Printed On: 9/18/2023 4:35:24 PM

Annex-E

Registration No: 1310169195121  
 Reference No: 0022745-5  
 Registered for Sales Tax: No  
 Name: IKRAM RABBANI  
 Category: Pakistani Male  
 PP/REG/INC No.:  
 Email: ikramrabbani1959@gmail.com  
 Cell: 00923\*\*353\*\*97  
 Address: HOUSE #B-09, ASKARI-10, NEW AIRPORT ROAD, LAHORE, Lahore Cantonment  
 Registered On: 04-JAN-1996  
 Tax Office: RTO RAWALPINDI  
 Registration Status: Income Tax: Active

Sr.	Business/ Branch Name	Business/ Branch Address	Principal Activity
-----	-----------------------	--------------------------	--------------------

*[Faint handwritten entries in the table, mostly illegible]*

Attested  
*[Signature]*  
 Appellant

*[Faint handwritten text]*  
 Additional Comments:  
 051-9292738  
 0345-982046

Attested  
*[Signature]*  
 Appellant



copy

Better Copy

20-A

FBR

## Federal Board of Revenue

Verification

Revenue Division-Government of Pakistan

Taxpayer Profile Inquiry

Printed on 9/18/2023 4:35:24 PM

Registration No: 13169195121  
 Reference No: 0022745-5  
 Registration for Sales Tax: No  
 Name: IKRAM HABBANI  
 Category: Pakistani Male  
 PUNREG INC No:  
 Email: [ikramhabbani@pakistan.com](mailto:ikramhabbani@pakistan.com)  
 Cell: 00923\*\*353\*\*97  
 Address: House#H-09, ASKARI-10 NEW AIRPORT ROAD LAHORE, Lahore Cantt, Lahore  
 Registered On: 04-JAN-1996  
 Tax Office: RTO RAWALPINDI  
 Registration Status: Income Tax: Active  
 Sr. Business/Branch Name Business/Branch Address Principal activity

20-A

اگر اکرام ربانی صاحب کے نام پر کوئی کمپنی / فورم FBR میں رجسٹرڈ ہوئی تو اسکا لدراج اس جگہ ہونا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اکرام ربانی کے نام پر نہ تو کوئی کمپنی / فورم رجسٹرڈ ہے اور نہ ہی SALES Tax میں اس نام کی کوئی کمپنی یا فورم رجسٹرڈ ہے

مزید معلومات کیلئے مجھ سے مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں

SD Riaz Khan  
Additional Commissioner  
Regional Tax Officer  
Rawalpindi  
051-9292739  
0345-982961

Attor  


Appellant



70

Annex - F

21

قلمبہ الوداع

درخواست برآمدہ نوبی رائیجانی

قدیم 524 حصہ 14<sup>56</sup> جزم 425-119 کے قلمبہ الوداع  
بذات اکرام رائیجانی رولڈ ٹورسٹ اور رولڈ ٹورسٹ کے قلمبہ الوداع اور رولڈ ٹورسٹ اور رولڈ ٹورسٹ

بذات صاحب DPP صاحب فوسٹ

قلمبہ الوداع  
قدیم عنوان و جزم بالروس درمی قلمبہ الوداع نے ایسا درخواست میں برقرار رکھا ہے  
بالا کے جسٹس لکھنؤ پورہ جسٹس پورہ اور رولڈ ٹورسٹ جزم بڈانے کا الزام لگایا گیا  
جس پر کہ درخواست نمبر 15-06-023 پر قلمبہ الوداع رولڈ ٹورسٹ کے قلمبہ الوداع  
آئی آر ایف نوبی رائیجانی کے قلمبہ الوداع کے قلمبہ الوداع کے قلمبہ الوداع کے قلمبہ الوداع

Amir  
Asi/05/AKeva  
15-06-023

mention of DPP  
proposition  
RIS

As per application mentions  
that forged document has  
been used which is also  
mentioned in the court order  
by the learned AS J. S. I.  
Section 467, 471, 482 PPC

As per  
15-06-023

the enclosed ASI approved  
DPP  
15/06/23

Attested:

Appellant

صلاح و توثیق

تعمیر آوریہ

شمارہ 524 درجہ 56/583 14 جیم 419-420 خانہ آوریہ  
467-471-472

بنیادی - آلام ربانی ولد محمد رشید صدیقی سٹائن نیو ایئر ایڈرس روڈ کان نمبر B-69 ایچ سٹری

ریڈر کنسٹ

درخواست براد جاری کرنے ڈاٹ انٹرنیٹ نادر اکرام

صیغہ عالی؛ خدمت عنوان رجسٹرڈ بالدر میں ملزم بالدر نے ایئر لمیٹڈ پر جو دستخط کیے ہیں اس میں اور ڈیوید کٹھن صاحبی کارڈ میں آئیے جس میں جبکہ ملزم کے تھری CNIC میں دستخط تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ بھی تصدیق کیے نادر اکرام سے ملزم سے نام پر جاری شدہ CNIC تین عدد میں دستخط کی معلومات درکار ہے۔

گذریہ درخواست اسدہ ماحضہ نادر اکرام کو ڈاٹ جاری کر کے کہ ملزم کے نام پر جو CNIC نادر اکرام جاری ہو کر تینوں میں دستخط ملزم کی اصل ہے۔

Attested  
Ms. Iqbal Akora  
06.08.20

Attested  
Attested  
Appellant

Annex - H

(23)

کمانہ اکوڑہ نقل نمبر 37 روزنامہ 7/9/07 علی گڑھ

37 نمبر رپورٹ گمشدگی پاک آرمی کارڈز و دیگر سبھی لفٹیننٹ کرنل ایڈم برانڈ و لہ  
 محمد رشید بھٹائی مشتاق آباد ٹنم 1-2-51969-13101 مکہ بھٹائی  
 منیر ایئر فورس روڈ لاہور کنٹیکٹ نمبر 65 سال رقت 16:20 بجے صبح 7/9/07  
 کھانہ کھانے آکر ہوں (یوٹیلٹی کارڈ) تم جسٹس 16/6/23 کو یونٹ 14100  
 جو ہے مقام اکوڑہ کے حدود میں مندرجہ ذیل پاک آرمی کارڈز ہیں  
 گزرتے ہیں ہمیشہ یہ ہے 1) ریٹائرڈ آرمی آفس 15 کارڈ 2005  
 2) ANF 1 بچہ یوٹیلٹی کارڈ 3) کوئٹہ آرمی لائبریری کارڈ جن  
 میں سے یوٹیلٹی پاک آرمی کے تقاضا چھپا ہوا ہے اور آگے اور  
 پیچھے سے اور پینل و مسٹھ صائے مقبوضہ ہیں ہم نے رپورٹ کیا ہے  
 رپورٹ ملنے یا نہ ملنے کے لیے ہم نے ضروری کام آگے اور کوئٹہ  
 کریمیل ایگورنس غلط ہے جی رہتے ہیں استعمال نہ کرے رپورٹ ملے  
 یا نہ ملے وہی کارڈز کمانہ کمانہ کمانہ رپورٹ حوالہ دے رہا ہے  
 سیکرٹری علیہ سربراہی سے رپورٹ کثرت ملے

پاک آرمی  
 علی گڑھ

Handwritten signature

29



Attested  
 (Signature)

Appellant

Annex-I

24

BEFORE THE LEARNED DISTRICT & SESSIONS JUDGE, RAWALPINDI.

State Versus Ikram Rabbani

APPLICATION FOR RECALLING PROCEEDINGS OF ABSCONSION AND GET VERIFYING SPECIMENT SIGNATURE OF THE PETITIONER THROUGH ORIGINAL SERVICE CARDS ETC.

1012  
01.4.24  
C.C.2

Respectfully shewith

1. That petitioner is accused of case FIR No.805, dated 22.12.2018, u/sec. 420/468/467/471 PPC, registered at P.S Waris Khan, District Rawalpindi.

That the trial of the above said case was in progress when due to non-appearance of petitioner, he was declared Proclaimed Offender and after completion of proceedings u/sec. 87 Cr. PC filed was adjourned as sine die.

3. That during trial, it was required from the petitioner to get verify his signature through his original service cards etc. but due to unavoidable circumstances, petitioner could not appear before the Court and submit the requisite card for verification.

4. That now through the instant petition, petitioner is sending original services cards bearing No.192, registration 3156 along pass number 06027/37316 and Retired Officer Identity Card Serial No.406906, (original attached) for verification of my signature through the office of PFSA, Lahore.



بدریفت امیر پیمراہ مل سنہ 02-04-24

19/04/24  
Dr. Muhammad Muzaffar  
Civil Judge 1<sup>st</sup> Class  
Judicial Magistrate Sec 33  
Rawalpindi.

RECEIVED  
STATE OFFICE  
APR 24 2024

25

It is therefore, respectfully prayed that this petition may very kindly be allowed and while restoring the above mentioned criminal case, service cards mentioned in the body of the petition (original attached), be sent to PFSA, Lahore for verification of my signature affixed on the sale agreement.



Petitioner  
Ikram Rabbani/accused

**AFFIDAVIT**

I, Ikram Rabbani son of Muhammad Rasheed Siddiqui, Caste Shelkh, resident of House No.199-BX Madni Road, Tehsil & District Attock, do hereby solemnly affirm and declare on oath that what stated in the application is correct and true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed therefrom.

Deponent: *[Signature]*

**CERTIFICATE**

It is certified that the contents of the above said affidavit are correct and true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed therefrom.

**ATTESTED**

*[Signature]*  
M. R. P. HUSAINI  
District Judge, Lahore  
District Court, Lahore  
No. 199-BX Madni Road, Attock  
Lahore Cant. District Lahore

Deponent: *[Signature]*

**ATTESTED**  
20 APR 2011  
District Judge  
District Court  
District Lahore

Ikram Rabbani son of Muhammad Rasheed Siddiqui, resident of New Airport Road, House No.B-69 Mohallah Asghari 10 Lahore Cant. District Lahore.

Be sent to the Court concerned for further necessary action in accordance with law.

*[Signature]*

*[Arabic text]*

Annex - F

26

دفتر خصوصی کیلین

رپورٹ

ضلع نوشہرہ

مقدمہ عدالت 524 مورخہ 14.06.2023 پرم 419.420.467.471.472ppc قاتان اکوڑہ

بذریعہ: فضل قادر ولد مراد خان سکندری آباد ضلع نوشہرہ

نام :- اکرام ربانی ولد محمد صدیق سکندری نیو ایر پورٹ روڈ لاہور کینٹ صوبہ پنجاب

جناب عالی

مخبر اور خواست اذان اکرام ربانی معروض خدمت ہوں کہ مدعی مقدمہ بالائے برائے اندراج مقدمہ عدالت جناب مرزا محمد کاشف ASJ صاحب نوشہرہ درخواست زبردندہ 22A ضف داد کر کے منوقت استیاء کیا کہ "سائل کی خیر آباد میں مارشل ناظر اور گریڈنگ لکھل کا کاروبار ہے اور پورے پاکستان میں چلائی کرتا ہے سائل خیر آباد میں ایک نئی گریڈنگ لکھل کی گانے کا خواہشمند تھا جس کے لئے سائل نے ملزم بالا اکرام ربانی کے ساتھ مورخہ 28.09.2020 کو خیر آباد میں مشینری فراہم کرنے کے لئے پہلے سے وہی کی کوشش کے مطابق معاہدہ کیا اور اس سلسلہ میں ملزم بالا کو مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000 روپے ادائیگی کی۔ لیکن ملزم بالائے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کے باوجود بھی مشینری فراہم نہ کی " جس پر مورخہ 07.06.2023 کو عدالت بالائے کاروائی 154 ضف (اندراج مقدمہ) کا حکم صادر فرما کر حفظا خان ASI نے حسب الحکم عدالت عدالت 524 مورخہ 14.06.2023 قاتان اکوڑہ درج رجسٹرڈ کر لیں کوشش حوالہ ASI آصف مخی کیا گیا۔

تفتیشی افسر نے مقدمہ میں تفتیش شروع کر کے دیگر لوازمات تفتیش پورا کرنے کے علاوہ "اکرام ربانی اینڈ کو" کی معلومات FBR سے حاصل کی جن کے مطابق اس نام کی کوئی کمپنی ان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں جس پر حسب رائے جناب DPP صاحب مقدمہ میں ملزم 467.471.472ppc کی ایوانگی بھی مل میں لائی گئی مورخہ 16 جون 2023 کو ملزم بالا بمقام سول یاٹیل حسب شناختہ گرفتار ہو کر جس کو بغرض حیدر اہل حراست مقامی عدالت میں پیش کر کے جو درخواست حراست منظور ہو کر ملزم (درخواست گزار) داخل جیل کیا گیا تفتیشی افسر نے حراست کے حصول کے لئے عدالت DSI صاحب کو نظر ہالی درخواست پیش کر کے جس پر ملزم کی 01 یوم حراست پولیس نظرو کی تفتیشی افسر نے ملزم کو اگلے روز مزید حراست کے لئے عدالت میں پیش کر کے جو مزید حراست نسل کر ملزم (درخواست گزار) نے اپنے بیان زبردندہ 161 ضف میں تسلیم کیا کہ میرا مدعی فضل قادر کے ساتھ مشینری لگانے کا معاہدہ ہوا تھا جس کی بنا پر میں نے مدعی سے مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000 روپے بھی وصول کئے ہیں لیکن بعد ازاں چونکہ COVID-19 برکت مشینری فراہم نہ کر سکا ہوں اور اب مشینری کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جس کی بنا پر میں مشینری فراہم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ مقدمہ میں مورخہ 28.06.2023 کو SHO قاتان اکوڑہ نے بیان مکمل دیا ہے۔

(1) درخواست کنندہ (ملزم اکرام ربانی) نے اپنی درخواست میں خلا FIR کے اندراج کا ذکر کیا ہے جو کہ مقدمہ بدامنی مقدمہ ہالاک کی درخواست زبردندہ 22A ضف پر حسب الحکم عدالت درج رجسٹر کیا گیا ہے۔

(2) درخواست کنندہ (ملزم اکرام ربانی) نے تفتیشی افسر کے خلاف راولپنڈی میں غیر قانونی طور پر خود کو گرفتار کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ بمطابق ریکارڈ ملزم کی گرفتاری قاتان اکوڑہ کی حدود میں کی گئی ہے اور ملزم کا CDR اور تفتیشی افسر اگر گرفتار کنندہ افسر کے CDR کے مطابق ہوتے گرفتاری 15:45 بجے دونوں کی لوکیشن حدود قاتان اکوڑہ ثابت ہوتے ہیں۔ جو کہ بالکل درست ہیں۔

(3) جہاں تک درخواست کنندہ نے اپنی درخواست میں تفتیشی افسر کے خلاف کارڈ وغیرہ بتائے ہیں ایسے کی شکایت کی ہے تو تفتیشی افسر نے اپنے تحریری بیان میں تحریر کیا ہے کہ درخواست گزار اکرام ربانی نے 3 عدوشناختی کارڈ بنوائے ہیں جن میں طبع بھی بدلتا رہا ہے یعنی ایک کارڈ میں دائیں دھکی ہوئی تصویر ہے اور دوسرے میں چھتائی والی تصاویر ہیں جبکہ تینوں شناختی کارڈ پر درخواست گزار کے دستخط بھی طبع و طبعہ ہیں، تینوں شناختی کارڈ کے فتوحات حاصل کر کے بغرض تصدیق اور مصلحت افسران بالا صاحبان تک تازہ کارڈ سال کے گئے ہیں جس کی رپورٹ داخل موصول نہ ہوئی ہے۔

(4) درخواست کنندہ اکرام ربانی نے اپنی پوری درخواست میں ظاہر جاوید اعوان نامی شخص کی بہت تحریر کیا ہے مگر جو ریکارڈ سے پایا جاتا ہے کہ نام ربانی اور ظاہر جاوید نامی شخص کے مابین کرسروراز سے لین دین کے تنازعات طبع آ رہے ہیں اور صوبہ پنجاب میں دونوں فریقین کے مابین مقدمہ بازی آرہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ درخواست گزار اکرام ربانی کا وکیل اہم خان ایڈوکیٹ مقدمہ بدامنی فضل قادر کو ظاہر جاوید اعوان کا مہر و تانا ہے۔

Attestd  
Appellant

(5) مدعی مقدمہ نے نیشنل کارڈ کو طلب کر کے جس سے درخواست کی نسبت بائیس ہو کر جواباً بتلایا کہ درخواست کنندہ اکرام ربانی نے میرے کسی ظاہر جاوید اعوان اور میرے گواہ الوداعی و غیرہ کے خلاف لاہور صوبہ پنجاب میں عدالت میں کیس کیا ہے جس کی وجہ سے ظاہر جاوید اعوان کے ساتھ میرا تعلق بن گیا ہے۔ مزید بتلایا کہ میں آج ہاؤسنگ کے زمانہ سے بارہل انڈسٹری سے وابستہ ہوں جو رقم میں نے اکرام ربانی کو حوالہ کی ہے وہ میری کاروباری آمدن تھی علاوہ ان میں ایک کارخانہ دار ہوں اور پورے پاکستان میں کاروبار کرتا ہوں میرے لئے متذکرہ رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ درخواست گزار کے خلاف مقدمات (1) ملت 805/2018 جرم 7805/2018 420.467.468.471 پپس قاتلہ وارث خان شطیح ماہ اپنی (2) مات 83/2019 جرم 25-ڈی ملی گراف ایکٹ قاتلہ سول لائن شطیح اپنی ہی راج رجسٹر ہو چکے ہیں۔

درخواست کنندہ اکرام ربانی جو کہ مقدمہ ملت 524/2023 قاتلہ کوڑھ میں نامزد ملزم ہے، جس کے خلاف تفتیشی افسر نے مقدمہ میں تفتیش مکمل کر کے پیش مقدمہ چالان عدالت کیا گیا ہے۔ درخواست کنندہ ملزم اکرام ربانی کو مقدمہ کے اندراج پر یا تفتیشی افسر کی تفتیش پر اعتراضات ہوں تو اس سلسلہ میں مناسب ثبوت کے ساتھ مقدمہ کی اخراج کے لئے عدالت عالیہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے یا سمورت ڈیگر RRB (ریجنل ریویو بورڈ) کو تفتیش کی درخواست دے سکتا ہے۔ رپورٹ عرض ہے۔

  
28/8/23  
DSP.INV.NOWSHERA

نمبر 116۔ ریگورنور 2804.2023

Attested  
  
Appellant

14  
8  
3  
7  
9  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50




Annex - K

28

CHARGE SHEET

1. I, Nasir Mahmood, PSP, District Police Officer, Nowshera, as competent authority, hereby charge IHC Asif Ghani No.403 as per Statement of Allegations enclosed.
2. By reasons of above, you appear to be guilty of misconduct under Police Rules, 1975 and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in Police Rules, 1975.
3. You are, therefore, required to submit your written defense within 07 days of the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer, as the case may be.
4. Your written defense, if any should reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.
5. Intimate whether you desire to be heard in person.

Attested  
Dawal  
Appellant

  
(NASIR MAHMOOD)PSP  
District Police Officer,  
Nowshera

Annex-L

29

**DISCIPLINARY ACTION**

I, Nasir Mahmood, PSP, District Police Officer, Nowshera as competent authority am of the opinion that IHC Asif Ghani No.403 has rendered himself liable to be proceeded against as he committed the following acts/omissions within the meaning of Police Rules, 1975.

**STATEMENT OF ALLEGATIONS**

Whereas, IHC Asif Ghani No.403 while posted at Investigation Wing, PS, Akora, now District Mardan, an application was submitted by Lt Col @ Ikram Rabbani to the Worthy Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa for transfer of investigation of case FIR No. 524/2023 u/s 419/420/467/471/472 PPC PS, Akora and recovery of Army personnel cards from Tahir Javed Awan, Fazli Qadir (complainant of the case) and aforementioned police official to Crime Branch, CPO Peshawar, wherein inquiry was conducted through the office of DIG/IAB, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and on completion, IHC Asif Ghani No. 403 was found guilty and recommended for departmental proceedings, vide letter No. 1440/CPO/IAB dated 12.09.2023, addressed to the Regional Police Officer, Mardan. The Regional Police Officer, Mardan entrusted the said enquiry to SP Investigation, Mardan for conducting enquiry against him (IHC Asif Ghani) under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975.

For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused official with reference to above allegations, Mr. Muhammad Suleman, PSP, SP Investigation, Mardan is hereby nominated as Enquiry Officer.


The Enquiry Officer shall in accordance with the provision of Police Rules, 1975, provide reasonable opportunity of hearing to the defaulter official, record his findings and make immediate recommendations as to punish or other appropriate action against the defaulter official.

IHC Asif Ghani No.403 is directed to appear before the Enquiry Officer on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.

No. 106 /PA,  
Dated 28/03 /2023

Attested  


Appellant

  
NASIR MAHMOOD)PSP  
District Police Officer,  
Nowshera

H. Pelloni  
H. Steiner

من این نامه را به شما می‌فرستم که در آن به درخواست شما در خصوص  
 درخواست برای دریافت کارت ملی و سایر امور اداری اشاره شده است.  
 در خصوص درخواست شما در خصوص دریافت کارت ملی، خواهشمند است  
 مدارک مورد نیاز را به این اداره ارسال نمایید. همچنین در خصوص  
 سایر امور اداری، خواهشمند است با این اداره تماس بگیرید.  
 در خصوص درخواست شما در خصوص دریافت کارت ملی، خواهشمند است  
 مدارک مورد نیاز را به این اداره ارسال نمایید. همچنین در خصوص  
 سایر امور اداری، خواهشمند است با این اداره تماس بگیرید.  
 در خصوص درخواست شما در خصوص دریافت کارت ملی، خواهشمند است  
 مدارک مورد نیاز را به این اداره ارسال نمایید. همچنین در خصوص  
 سایر امور اداری، خواهشمند است با این اداره تماس بگیرید.  
 در خصوص درخواست شما در خصوص دریافت کارت ملی، خواهشمند است  
 مدارک مورد نیاز را به این اداره ارسال نمایید. همچنین در خصوص  
 سایر امور اداری، خواهشمند است با این اداره تماس بگیرید.

این نامه را به شما می‌فرستم

(30)

Annex-M

Att. Adm.  
Appellate

Handwritten text in Urdu, appearing to be a list or set of instructions, possibly related to an appeal process.

(تاریخ)

Handwritten signature and date: 04-10-03

Handwritten text in Urdu, likely a continuation of the notes or instructions from the upper section.

Better Copy

بیان آزان آصف غنی IHC ضلع نوشہرہ

جناب عالی

بحوالہ چارج شیٹ نمبری NO106/PA مورخہ 28-09-2023 مجاریہ از جناب DPO صاحب ضلع نوشہرہ معروض

خدمت ہوں بحوالہ درخواست آزان اکرام ربانی معروض خدمت ہوں کہ مدعی نفل قادر ولد مدار خان ساکن خیر آباد نے برائے اندراج مقدمہ بعدالت جناب مرزا محمد کاشف ل AS صاحب نوشہرہ درخواست زیر دفعہ 22A دائر کر کے موقف اختیار کیا کہ مسائل نے گرانڈنگ فیکٹری لگانے کی خاطر ملزم اکرام ربانی درخواست کنندہ کے ساتھ مورخہ 28-09-2020 کو خیر آباد میں مشینری فراہم کرنے کیلئے مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000 روپے ادائیگی کی لیکن ملزم بالانے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کے باوجود مشینری فراہم نہ کی جس پر مورخہ 07-06-2023 کو عدالت ہال نے کارروائی 154 ض ف اندراج مقدمہ کا حکم صادر فرما کر حفظ خان ASI نے حسب احکم عدالت علت 524 مورخہ 14-06-2023 جرم 419-420 ت پ تقاضا کوڑہ درج رجسٹرڈ ہو کر بغرض تفتیش حوالہ من ASI ہو کر جو کہ دوران تفتیش مقدمہ میں لوازمات تفتیش پورا کرنے کے علاوہ ملزم نامزد اکرام ربانی کو حسب ضابطہ گرفتار کر کے جو کہ بعد قانونی لوازمات چالان عدالت کیا گیا ہے جو کہ جملہ کارروائی منجملہ پر بذریعہ ضمدیات موجود ہے اور وقتاً فوقتاً افسران بالا صاحبان اور جناب O صاحب کے نوٹس میں لایا گیا ہے۔

جہاں تک ملزم اکرام ربانی نے من تفتیشی آفیسر پر تین عدد کارڈ مختلف نام ملزم قبضہ پولیس کی الزام لگایا گیا ہے تو اندریں بارہ مقدمہ ہذا میں جب بھی کسی ملزم سے کوئی شے وغیرہ برآمد کئے جاتے ہیں تو موقع پر برے فرد قبضہ پولیس کئے جاتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر جان کر حلفاً کہتا ہوں کہ ملزم کے مختلف کارڈوں سے میں لاعلم ہوں اور اگر اس میں میری بددیانتی شامل ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے اور جہاں تک ملزم کی درخواست کی بات ہے تو ملزم انتہائی چالاک اور درخواست باز ہے اور من تفتیشی آفیسر کو دبانے کی کوشش میں ہیں اور اس بارے میں بے گناہوں رپورٹ عرض ہے۔


SD مورخہ 04-10-2023

آصف غنی

نوٹ

اکرام ربانی ملزم نے جن تین عدد کارڈ ہائے کی الزام من IHC پر لگائے گئے ہیں اس بارے میں ملزم اکرام ربانی نے بحوالہ 37 روز نامہ 07-09-2023 تقاضا کوڑہ خٹک میں گشدہ کارڈ کے بارے میں تفصیلاً رپورٹ گشدگی درج کی ہے جو لف بیان ہذا ہے۔

Attest  
Appellant



Annex N

3439  
27-11-23

Received today 29/11/23  
33

OFFICE OF THE  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
INVESTIGATION MARDAN  
Phone No. 0937-9230121  
Fax No. 0937-9230321  
Email: invmda@gmail.com

No. 1038 /PA/Inv:

Dated 06/11/2023.

To: The Regional Police Officer,  
Mardan.

Subject: ENQUIRY AGAINST IHC ASIF GHANI IN CASE FIR NO. 524 DATED  
14.06.2023 U/S 419/420/467/471/472 PPC PS AKORA KHATAK, DISTRICT  
NOWSHERA.

Memo:

Kindly refer to your office No. 789-91/PA dated 14.09.2023, on the subject noted above.

It is submitted that in compliance of DIG /AIB office letter issued vide 1440/CPO/IAB dated 12.09.2023, your good office has nominated the undersigned as Enquiry Officer to proceed the above name defaulter officer departmentally and doing the needful.

PROCEEDINGS:

Enquiry proceedings commenced, the defaulter official Asif Ghani No. 403 was Charge Sheeted vide No. 106/PA dated 28.09.2023 by District Police Officer, Nowshera under the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 as amended 2014, on account of the following allegations. The Enquiry Officer summoned the defaulter official to attend the office for receiving his Charged Sheet along-with Statement of Allegations and same was served upon him and he submitted his detailed reply.

STATEMENT OF ALLEGATIONS:

That "IHC Asif Ghani No. 403, while posted at investigation wing, PS Akora now District Mardan, an application was submitted by Lt Col @ Ikram Rabbani to the worthy Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, for transfer of investigation of case FIR No. 524 / 2023 u/s 419/420/467/471/472 PPC PS Akora and recovery of army personnel cards from Tahir Javid Awan, Fazli Qadir (complainant of the case) and aforementioned police official to Crime Branch, CPO Peshawar wherein enquiry was conducted through the office DIG / IAB, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and on completion, IHC Asif Ghani No. 403 was found guilty and recommended for departmental

Attested  
Appellant

34

proceedings, vide letter No. 1440/CPO/IAB dated 12.09.2023, addressed to the Regional Police Officer, Mardan for conducting enquiry against him (IHC Asif Ghani) under Khyber Pakhtunkhwa, Police Rules 1975,

Besides, this Charge Sheet and summary of allegation an enquiry was conducted by DSP Complaint & Enquiry Internal Accountability Branch CPO Peshawar and vide letter No.1440/CPO/IAB dated 12.09.2023 an application of the applicant was received and also he submitted his written statement which is annexed here, in which further following allegation were leveled against the delinquent ASI.

1. That he was picked-up by ASI Asif Ghani with the connivance of Tahir Awan from Rawalpindi while he was coming back from the judicial complex after attending the Court but his arrest was shown from the Surya Kheil Akora Khatak District Nowshera.
2. He also alleged that his three Army cards were taken by said ASI at PS Akora Khattak and were stolen by him and also he took his pictures in the lockup of PS Akora Khattak which were given to Tahir Awan who viraed the same picture on social media damage his repute.

The defaulter official received his Charge Sheet and submitted written reply wherein he stated that complainant of aforesaid FIR namely Fazli Qadir s/o Dildar Khan r/o Khair Abad submitted a complainant u/s 22-A CrPc before the court of ASJ Nowshera with the request for registration of FIR on the ground that he made an agreement dated 28.09.2020 with the present applicant/accused Ikram Rabbani for delivery and installation of machinery for another plant of grinding factory in lieu 01 cror, 50 lac (one cror & fifty lac) in which he paid Rs.120,00,000/- (one cror twenty lac) at deferen time, but the present applicant/accused diverted from agreement deed and despite of receiving the above mentioned money neither he (Ikram Rabbani) installed machinery nor ready to repay the money to him (complainant of FIR). On which the Court concerned Order on 07.06.2023 for registration of FIR against accused Ikram Rabbani upon which the aforementioned FIR was registered.

He further stated that investigation of the case entrusted to him who fulfilled all the codal formalities and arrested the above named accused and challan the case to the Court concerned after doing necessary legal proceedings. He brought all the proceedings on case file and also informed his Senior Officer as well.

Furthermore, so for as allegation concerned to the cards he denied the allegation and stated that neither he took into possession/recovered any card from the accused Ikram Rabbani nor he knows about this. He added that the accused are

Attested  
[Signature]  
[Signature]

influential, clever and habitually submitted application against police officer to pressurize them.

He further disclosed that in connection of the above mentioned cards accused Ikram Rabbani has already registered daily dairy No.37 dated 07.09.2023 PS Akora Khattak about missing the same. Copy of D.D is enclosed.

Further, he requested for filling the instant Charge Sheet against him without further any action.

To probe into these allegation, besides the defaulter officer all the concerned police officer / official were summoned to the office by the undersigned and heard them in detailed, their statements were also recorded which are as follows:-

**STATEMENT OF INSP: ABD-UR-RAUF THE THEN OI PS AKORA KHATAK:**

He stated that the above named complainant of FIR submitted a complaint u/s 22-A against the accused Ikram Rabbani on which the learned Court ordered for registration of FIR and in compliance the above mentioned FIR was registered against the accused Ikram Rabbani. He was arrested and produced before the Court for obtaining his physical custody but the learned Court refused and remanded him to judicial lockup. Latter-on IO of the case (defaulter officer) got one day physical custody of the accused from the Court concerned and interrogated him. After expiry of custody the accused was again produced before the Court by the IO for further custody but the Court once again remanded the accused to Jail. Challan into the case has been submitted to the Court concerned.

**STATEMENT OF SI WAQAS KHAN THEN SHO PS AKORA KHATTAK:**

He stated that the above mentioned FIR was registered against the accused Ikram Rabbani by order of ASJ Nowshera and investigation of the case was entrusted to ASI Asif Ghani. On 16.06.2023 he was on patrolling that received information that accused Ikram Rabbani was arrested at Surya Kheil during barricade and fined in lockup of the PS.

**STATEMENT OF MUHAMMAD TARIQ THE THEN MASI PS AKORA KHATAK:**

He stated that the above FIR was registered against Ikram Rabbani by the order of the learned ASJ Nowshera and the case was investigated by the defaulter officer. IO of the case (defaulter officer) on 16.06.2023 vide D.D No.06 dated 16.06.2023 at 07:10 hrs departure from the PS and on the same date arrived along with accused Ikram Rabbani vide D.D No.15 at 15:45 hrs to the PS. The accused was confined in PS lockup after proper body search and on next day produced before the Court concerned for obtaining his physical custody but the learned Court remanded him to judicial lockup. During Police custody no one tease or pressurized him.

Attested  
Appellant



**STATEMENT OF PASI HAFIZ KHAN THEN I/C PP KHAIR ABAD:**

He stated that he registered the aforesaid FIR by order of the learned Court of ASJ Nowshera. He further stated that before the registration of the case verbal permission was granted by the high ups.

**STATEMENT OF FC MASOOD KHAN NO.316 THEN POSTED AT PS AKORA KHATTAK:**

He stated that on 16.06.2023 while he was posted at PS Akora Khattak in investigation wing and was present in the area of the PS along-with IO of the aforesaid case (defaulter officer) meanwhile they received information that accused Ikram Rabbani charged in the aforesaid case came to District Nowshera for some purpose and returning back to Attok District Punjab through Toyota Hiace. According to information they conducted Naka bandi/barricade in the area of Surya Kheil and on pointation of informer they deboarded the accused Ikram Rabbani from vehicle and arrested him accordingly. During body search nothing illegal recovered from him and on returning to PS he was confined in PS lockup.

During the enquiry the following private persons related to this enquiry were also summoned but none of them appeared before the undersigned.

1. Tahir Awan s/o Ghulam Sarwar r/o House No. 01 Street No. 01, Dar-ul-Islam Colony, Attok City.

2. Fazli Qadir s/o Dildar r/o Marble and Grinding mill Jehangira.


They were informed through proper summon and same was dispatched to their respective DPOs for execution. Moreover, they were also informed telephonically but they did not appear before the undersigned for recording their statements.

**ENQUIRY OFFICER OBSERVATIONS:**

During the process of enquiry the statements of the above mentioned officers were recorded in presence of the delinquent ASI Asif Ghani and he was given the opportunity of cross examination. Similarly the applicant also submitted written application along-with photocopies of pictures which is placed on enquiry file the pictures are showing him confined in the lockup (allegedly taken by the delinquent ASI).

The CDRs of the mobile number of the following are also obtained. The detail is given below:

1. ASI Asif Ghani Mobile No. 0314-9896876. He confirmed that this number is being used by him but it is registered on the name of his cousin Bakht Saeed.

Attest  
  
 Applicant

2. Constable Masood Khan (gunner of ASI Asif Ghani) mobile number 0316-1939964 this number is registered on the name of his cousin Muhammad Sohail. He confirmed that this SIM is being used by him.
3. Tahir Awan mobile number 0300-5014131 registered on his own name.
4. Ikram Rabbani mobile number 0344-3531197 registered on his own name.


The analysis of these CDRs shows that ASI Asif Ghani and his gunner Masood Khan were present in Nowshera on 16.06.2023 at 06:22 hrs and 06:05 hrs respectively and similarly at 08:01 hrs and 10:29 hrs respectively their location is traced near TLR Tower opposite Jinnah Park. Similarly both of these i.e Asif Ghani and his gunner Masood FC came back to Nowshera on the same day at 14:14 hrs and 15:06 hrs respectively. The further analyses the CDRs of the Tahir Awan and Ikram Rabbani shows that on 16.06.2023 at 09:34 hrs and 10:47 hrs respectively they were in Rawalpindi; whereas on the same day their location at 17:16 hrs and 17:22 hrs is traced at Akora Khattak respectively.

Further the applicant also produced the Order Sheet of the learned Court of the judicial magistrate Sec, 30, Rawalpindi and according to this on 16.06.2023 he attended the same Court in connection with some case.

From this analysis it established that Ikram Rabbani was arrested from Rawalpindi and was brought to Nowshera and at that time the location of Tahir Awan was also there which supports the version of the applicant although this was denied by the ASI Asif Ghani, OI Inspector Abd-ur-Rauf & SHO SI Waqas Khan. Moreover, in the report ASI Asif Ghani lodged vide D.D No. 06 dated 16.06.2023 PS Akora Khattak showing the arrest of Ikram Rabbani also seems his malafide.

As far as the matter of stealing of cards is concerned during the enquiry from the statements of ASI Asif Ghani, Muharrar etc and daily dairy No. 37 dated 07.09.2023 PS Akora Khattak it is confirmed that some documents were taken from the applicant and latter-on those were returned to him but the ASI denied that there were no Army card in those documents. In this regard the OI and SHO has shown their ignorance that they don't have any knowledge however, the MASI Muhammad Tariq has confirmed that at that time some documents were taken from Ikram Rabbani by the ASI Asif Ghani but he does not know whether those documents included the 03 army cards.

The applicant also produced the copy of D.D No. 37 dated 07.09.2023 PS Akora Khattak according to which the report was lodged about the missing of these cards. The SHO during cross of examination confirmed that this report was

Attested  
  
 Appellate

lodged at the direction of high-ups this also proves the malafide on part of the delinquent ASI.

As far the matter of taking picture of Ikram Rabbani in lockup is concerned none of the officer/official has admitted that any picture of Ikram Rabbani was taken in the lockup of the PS and the mobile of the ASI was also checked and no such picture was found in his mobile. They also denied that neither Tahir Awan nor Fazli Qadir came to Police Station when Ikram Rabbani was brought to the Police Station. However, from the CDR of the Tahir Awan it is established that if he had travelled from Rawalpindi to Nowshera on the same day and same time he could have come to PS Akora Khattak this could have been confirmed from his statement but he did not appear for recording his statement, as he has old dispute with Ikram Rabbani. From the CDR it can only be established that he would have come to PS and may have influence the ASI but the other witnesses i.e SHO, OII & MASI has denied they did not see those people at PS when Ikram Rabbani was brought to the PS.

So, it is suggested that the applicant may approach to proper forum for his illegal and un-lawful arrest of from Rawalpindi by ASI Asif Ghani connivance with Tahir Awan and also approach Cyber Crime Branch for deleting Whatsapp messages and taking photos of hawalat if he want further probe in this matter and also involvement of Tahir Awan with ASI Asif Ghani for his arrest from Rawalpindi.

**RECOMMENDATIONS:**

After going through the all above mentioned process the undersigned reached to the conclusion that ASI Asif Ghani while conducting the investigation of the case FIR No. 524 dated 14.06.2023 u/s 419/420/467/471 PPC PS Akora Khattak, on 16.06.2023 arrested the nominated accused Ikram Rabbani from Rawalpindi and has shown his arrest from the area of Surya Kheil Nowshera and to this extent he also made false entry in the Daily Diary, which shows his misconduct and he is recommended for Major Punishment.

Moreover, during this process the OII Inspector Abd-ur-Rauf and SHO/SI Waqas Khan being immediate officer have not fulfilled their responsibility, therefore, question mark also arises on their role for which they also be dealt departmentally, please.

Enquiry report submitted, please.

*Heard in person*

*ASI Asif Ghani dis missed*

*from service on account of gross misconduct*  
*OII & SHO given course*

(Muhammad Suleman)PSP  
Superintendent of Police,  
Investigation, Mardan.

*Attested  
Appellant*

Annex-0

Phone No: 0937-9230113-114,  
Fax No: 0937-9230115  
Email: digmardan@gmail.com



GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA  
OFFICE OF THE  
REGIONAL POLICE OFFICER,  
MARDAN

39

No. 7849 /ES, dated, Mardan Region the 01<sup>st</sup> December, 2023.

Show Cause Notice

WHEREAS, you (IHC Asif Ghani No.403) while posted in Investigation Wing Police Station Akora Khattak, Nowshera have been found guilty as under:-

1. That a case vide FIR No.524, dated 14-06-2023 u/s 419/420/467/471/472-PPC P.S Akora Khattak, Nowshera was registered after the complaint of Fazal Qadir s/o Dildar Khan r/o Khairabad was accepted in the court of ASJ Nowshera, wherein he alleged that accused Lt Colonel Ikram Rabbani (Rtd) diverted from the agreement of delivery and installation of machinery for grinding factory, for which the accused was allegedly paid Rs.1,50,00,000/-.
2. That the accused Lt. Colonel Ikram Rabbani stated allegations against that you were in connivance with Tahir Awan by registering a fake case against him and kept it purposely hidden.
3. That as per Ikram Rabbani you arrested him from the judicial complex of Rawalpindi, which you had denied.
4. That allegedly you misplaced 3 army cards of the accused Lt. Ikram Rabbani, which you took during his body search, regarding which he produced the Daily Diary Non.37, dated 07-09-2023 P.S Akora Khattak, and also damaged his reputation on social media.
5. That the matter was preliminary enquired through the office of DIG IAB, CPO, Peshawar and subsequently departmental enquiry was conducted through SP Investigation, Mardan.
6. That SP Investigation Mardan found you involved in misconduct by misrepresenting the actual arrest of the accused Ikram Rabbani from Rawalpindi and showing it in the area of Surya Kheil Nowshera, regarding which you also made false entry in the Daily Diary. Thus recommended you for major punishment.

WHEREAS, your these acts of omissions/commissions is tantamount to gross misconduct and punishable under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 as amended 2014.

You are, therefore, being issued this Show Cause Notice under Rule 5 sub rule (3) of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 as amended 2014 for the above stated misconduct. Your response should reach to this office within (7) working days. In case of non submission of reply or it is found unsatisfactory, action shall be taken against you under Rule 5 sub rule (5) of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 as amended 2014 and any of punishment in the ibid rules will be imposed upon you.

(MUHAMMAD SULEMAN) PSP  
Regional Police Officer,  
Mardan.

IHC Asif Ghani No.403.

CC.

The District Police Officer, Nowshera.

Allotted  
District  
Appellate

نہایت با احترام سے درخواست ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔

Dr. Shafiq  
Dr. Mehmood

میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔  
اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔  
اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔

اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔  
اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔  
اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔  
اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔

میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس میں صرف الفاظ کی اصلاح کی ہے۔

(46)

Annex-P

Next on  
Tues day

APPELLANT  
ATTEST  
[Signature]

Mayer Punishment  
Dismissed from Service

1872  
06.12.083

Handwritten text in Urdu script, appearing to be a legal or official document. The text is written in a cursive style and covers the lower half of the page. It includes several lines of text, some of which are partially obscured by the stamp and other markings.

(14)

Better Copy

42

بیان ازان آصف غنی IHC/403 ڈسٹرکٹ پولیس نوشہرہ

بیٹر کاپی

جناب عالی!

بحوالہ شوکاژ نوٹس نمبری 7949/ES مورخہ 01-12-2023 بجاریہ از جناب ریجنل پولیس افسر صاحب مردان معروف خدمات ہور  
کہ مدعی مقدمہ فضل قادر ولد مدار خان سکنہ خیر آباد نے برائے اندراج مقدمہ بعدالت جناب مرزا محمد کاشف ASJ صاحب نوشہرہ درخواست زیر  
دفعہ 22A دائر کر کے موقف اختیار کیا کہ "سائل کی خیر آباد میں ماربل ٹائلز اور گرانڈنگ مل کا کاروبار کرتا اور پورے پاکستان میں سپلائی  
کرتا ہے۔ سائل خیر آباد میں ایک نئی گرانڈنگ فیکٹری لگانے کا خواہشمند تھا جس کیلئے سائل نے ملزم اکرام ربانی کے ساتھ مورخہ  
28-09-2020 کو خیر آباد میں مشینری فراہم کرنے کیلئے معاہدہ کیا اور اس سلسلہ میں ملزم اکرام ربانی مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000  
روپے ادائیگی کی لیکن ملزم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کے باوجود مشینری فراہم نہ کی جس پر  
مورخہ 07-06-2023 کو بعدالت بالانے کاروائی 154 ضف (اندراج مقدمہ) کا حکم صادر فرما کر جو کہ حفیظ خان ASI نے حسب الحکم  
بعدالت مقدمہ 524 مورخہ 14-06-2023 PPC 419,420 درج رجسٹرڈ کر کے بمراء تفتیش حوالہ من IHC ہوا۔  
(ii)۔ ملزم اکرام ربانی جو کہ بحوالہ مد 15 روز ناچہ 16-06-2023 کو بمقام سوری یاخیل گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اور اس بارے میں  
انکوائری از دفتر جناب SSP انوشی گیشن مردان میں موجودگی اکرام ربانی جناب SHO صاحب اور کنسٹیبل مسعود نے اپنا تحریری بیان بھی  
دیا ہے کہ ملزم کی گرفتاری بمقام سوری یاخیل عمل میں لائی گئی ہے۔ جو کہ اب اکرام ربانی نے فرضی کہانی گڑھ کر افسران بالا صاحبان کو گڑھ کرنے کی  
کوشش کر رہے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کی درپے ہیں کہ اسے راولپنڈی سے گرفتار کیا ہے جو کہ من گھڑت ہے۔  
(iii)۔ مزید ملزم اکرام ربانی نے من IHC کے خلاف تین عدد کارڈ مختلف قبضہ لینے بیان کیا ہے جو کہ اس بابت اکرام ربانی باقاعدہ طور پر بحوالہ مد  
37 روز ناچہ 07-09-2023 میں اپنے کارڈ کی کپی گر کرپس وپیش ہونے کی رپورٹ درج کرائی ہے جو کہ تھانہ اکوڑہ میں ریکارڈ پر موجود ہے۔  
(iv)۔ مزید ملزم اکرام ربانی نے جو الزام لگایا ہے کہ من IHC نے اس کی سوشل میڈیا پر تصاویر وغیرہ شیئر کی ہے اس بابت اگر ملزم اکرام ربانی کوئی  
ثبوت موجود ہو تو وہ آپ افسران بالا کو پیش کر کے تاکہ اصل حقائق منظر عام پر لایا جاسکے۔  
من IHC نے بالکل غیر جانبدارانہ تفتیش کی ہے اور اس میں من IHC نے کوئی بد نیتمی شامل نہیں ہے اور جملہ حالات افسران بالا کے  
نوٹس میں لائے گئے ہیں۔

لہذا استدعا ہے کہ من IHC کی شوکاژ نوٹس بغیر کسی کاروائی کے داخل دفتر فرمادیں۔

SD \_\_\_\_\_

Applicant

POLICE DEPARTMENT

43  
NOWSHERA DISTRICT

ORDER

This order will dispose of the departmental inquiry, initiated against IHC Asif Ghani No. 403. He while posted at Investigation Wing, PS, Akora, now Region Office, Mardan, an application was submitted by Lt Col Ikram Rabbani (Rtd) to the Worthy Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa for transfer of investigation of case FIR No. 524/2023 u/s 419/420/467/471/472 PPC PS, Akora and recovery of Army service cards from Tahir Javed Awan, Fazli Qadir (complainant of the case) and aforementioned police official. An inquiry was conducted through the office of DIG/IAB, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar during which, IHC Asif Ghani No. 403 was found guilty and was recommended for departmental proceedings, vide letter No. 1440/CPO/IAB dated 12.09.2023, addressed to the Regional Police Officer, Mardan.

The Regional Police Officer, Mardan entrusted the said departmental enquiry to Mr. Muhammad Sulaiman, SP Investigation, Mardan, who after conducting enquiry submitted his report to the Regional Police Chief, Mardan, highlighted therein that he was involved in misconduct by misrepresenting the actual arrest of the accused Ikram Rabbani from Rawalpindi and showed it in the area of Surya Khel District Nowshera, regarding which he also made false entry in the daily diary hence, recommended him for awarding major punishment.

He was served with Final Show Cause Notice by the Regional Police Officer Mardan to which he submitted his reply. His reply was perused by the undersigned and found unsatisfactory.

On 13.03.2024, he was heard in orderly room by the undersigned, wherein he failed to produce any cogent reason in his defense, therefore, IHC Asif Ghani No 403 is hereby awarded major punishment of dismissal from service with immediate effect in exercise of the power vested in me under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules-1975.

OB No. 572/24

Dated 22/03/2024

(MUHAMMAD AZHAR)  
District Police Officer,  
Nowshera

No 572/24 /PA, dated Nowshera, the 22/03 /2024  
Copy for information and necessary action to:

- 1 The Regional Police Officer, Mardan w/r to his office letter No. 560/ES dated 03.03.2024
- 2 Pay Officer.
- 3 Establishment Clerk
- 4 I/C Clothing Godown
- 5 FMC with its enclosures (75) pages.
- 6 I/C Computer Lab.

Attested  
Appellant



For information کے  
کونسل

بخدمت جناب ریجنل پولیس آفیسر صاحب مردان ریجن

اپنی رو بارہ محالی نوکری

7.21/ES

جناب عالی! 26/3/24

Nigab

سائل کو جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب ضلع نوشہرہ نے مقدمہ نمٹ 524/2023، 472، 471، 467، 420، 19 اپریل 2024 تک  
 قیام کو نوٹس ہائس تفتیش کرنے کے الزام میں بحال آرا رکھ کر پی بی نمبر 570-75/PA، دوری 20 03 2024 تک پولیس سے ریخات کرنے کے لئے  
 جاری فرمائے ہیں اندر میں سلسلہ پے تفصیل ایل عرض پیش کرتا ہوں کہ مقدمہ نمٹ 524 کے مدعی لعل قادر، سیکرٹری آف ایڈمنسٹریشن، ایف ڈی ایف، جناب  
 مرزا نوحہ کاشف ASL صاحب نوشہرہ درخواست زبردست 22A ضلع دادلہر کے منقطع اختیار کیا کہ "سائل کی غیر آہستہ آمد میں داخل ہونے پر نوٹس مکمل ہو گیا ہے اور  
 پورے پاکستان میں پھائی کر رہا ہے سائل غیر آہستہ آمد میں ایک نئی گرانڈنگ ٹیم کی بنیاد پانے کا خواہشمند تھا جس کے لئے سائل نے کسی آکرہم پر اپنی تمام تر  
 28.09.2020 کو غیر آہستہ میں مشینری فراہم کرنے کے لئے پہلے سے دی گئی کوٹیشن کے مطابق معاہدہ کیا اور اس سلسلہ میں مزید 10 لاکھ روپے اخراجات میں  
 120,00,000 روپے اور ایجنسی کی لین آکرہم پر اپنی نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کے باوجود بھی مشینری فراہم نہ کی جس پر دوری  
 07.06.2023 کو عدالت ہالانے کا ردال 154 ضلع (اندرج مقدمہ) کا حکم صادر فرما کر علیہ خان ASI نے حسب القہم عدالت نمٹ 524 دوری  
 14.06.2023 جرم 419.420ppc قیام کو نوٹس رجسٹر ہو کر بغرض تفتیش حوالہ من IHC کیا گیا۔

من IHC نے مقدمہ میں تفتیش شروع کر کے دیگر لوازمات تفتیش پر آکر نے کے علاوہ "آکرہم پر اپنی ایجنڈہ" کی معلومات FBR سے حاصل کی  
 جن کے مطابق اس نام کی کوئی کمپنی ان کے ساتھ رجسٹرڈ تھی جس پر حسب رائے جناب DPP صاحب مقدمہ میں جرم 467.471.472ppc کی اپنا ادائیگی میں  
 میں لائی گئی ہو سکتی ہے 16 جون 2023 کو آکرہم پر اپنی بمقام سوری پائلٹ نوشہرہ سب سٹاپ کر لیا گیا (جس کی تصدیق آکرہم پر اپنی کی 16 جون کی CDR حاصل کر  
 کے کی جا سکتی ہے) جس کو بغرض حصول حراست مقامی عدالت میں پیش کر کے جو درخواست حراست، منظور ہو کر مزید (اور درخواست گزار) داخل ذیل کیا گیا من IHC  
 نے حراست کے حصول کے لئے عدالت DSJ صاحب کو نظر ثانی درخواست حسب ضابطہ پیش کر کے جس پر جرم کی 01 جرم حراست پولیس منظور کی تھی جرم کو اگلے روز  
 مزید حراست کے لئے عدالت میں پیش کر کے جرم پر حراست نکل کر مزید اپنے بیان زبردست 161 ضلع میں تسلیم کیا کہ میرا مدعی لعل قادر کے ساتھ مشینری  
 لگانے کا معاہدہ ہوا تھا جس کی بنا پر میں نے مدعی سے مختلف اوقات میں سیکرٹری آف ایڈمنسٹریشن 120,00,000 روپے بھی وصول کیے ہیں لیکن بعد ازاں COVID-19 پر وقت  
 مشینری فراہم نہ کر سکا ہوں اور اب مشینری کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جس کی بنا پر میں مشینری فراہم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔

دوران تفتیش یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مزید لانے 3 عدد شناختی کارڈ بنوائے ہیں جن میں مزید طبع بھی بدلتا رہا ہے یعنی ایک کارڈ میں راجہ می راجہ دہلی  
 تصویر ہے اور دیگر میں شجاعت والی تصاویر ہیں جبکہ تینوں شناختی کارڈ پر مزید کے دستخط بھی ٹیکہ و طبعہ ہیں مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ مزید کے خلاف مقدمات (1) عدالت  
 2805/2018 جرم 420.467.468.471ppc قیام کو نوٹس خان ضلع راولپنڈی (2) عدالت 83/2019 جرم D-25 ملی گراف ایک قیام کو نوٹس ضلع  
 راولپنڈی بھی درج رجسٹر ہو چکے ہیں جو مزید کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔

جہاں تک آکرہم پر اپنی کو راولپنڈی سوبہ پنجاب سے گرفتار کرنے کی بات ہے تو اندر میں سلسلہ عمل از میں بھی انکو آزادی ہو کر انکو آزادی افسر نے من  
 سائل کو بے گناہ قرار دیا ہے (رپورٹ مہر اولف ہے) مزید یہ کہ آکرہم پر اپنی اور من سائل دونوں کے CDR (بوقت گرفتاری آکرہم پر اپنی) حاصل کر کے جس کے  
 مطابق میری اور آکرہم پر اپنی دونوں کی کوٹیشن سوری پائلٹ نوشہرہ ہی ہے۔

من سائل نے اپنی پوری نوکری ریخات واری سے سرانجام دی ہے مقدمہ والا میں بھی من سائل نے حقائق کے عین مطابق تفتیش عمل میں لائی ہے  
 جس کی جانبداری نہیں کی ہے جملہ شواہد شامل مکمل کئے گئے ہیں اس کے علاوہ سائل نے ٹھک پولیس میں کم پیش 22 سال نوکری بغیر خوشی مکمل کر لی ہے اور کوئی بھی  
 افسران بالا سا حجان نے کسی قسم کی تنگنا نہ سزا نہیں دی ہے، سائل کی نوکری کے علاوہ کوئی دیگر ذریعہ آمدن موجود ہے، سائل کی بے گناہی سابقہ بے دہلی نوکری اور  
 گھریلو ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کو واپس ٹھک پولیس میں اپنے عہدہ پر بحال کرنے کے احکامات جاری فرما کر منظور فرمائیں۔

Amir

آصف منی سابقہ IHC ٹھک پولیس ضلع نوشہرہ 9896876-0314

Appellant

Annex - S

45

ORDER.

This order will dispose-off the departmental appeal preferred by Ex-IHC Asif Ghani No. 403 of Nowshera District Police against the order of District Police Officer, Nowshera, whereby he was awarded major punishment of dismissal from service vide OB: No. 150 dated 20.03.2024. The appellant was proceeded against departmentally on the allegations that he while posted at Investigation Wing, Police Station, Akora was closed to Region Office, Mardan as an application was submitted by Lt Col (Rtd) Ikram Rabbani to the Worthy Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa for transfer of investigation of case vide FIR No. 524/2023 u/s 419/420/467/471/472 PPC Police Station, Akora and recovery of Army service cards from Tahir Javed Awan, Fazli Qadir (complainant of the case) and aforementioned police official. An inquiry was conducted through the office of Deputy Inspector General of Police, Internal Accountability Branch, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar during which, delinquent Officer was found guilty and was recommended for departmental proceedings, vide letter No. 1440/CPO/IAB dated 12.09.2023, addressed to the Regional Police Officer, Mardan.

The then Regional Police Officer, Mardan entrusted the said departmental enquiry to Mr. Muhammad Suleman, the then Superintendent of Police Investigation, Mardan, who after conducting enquiry submitted his report, highlighted therein that he was involved in misconduct by misrepresenting the actual arrest of the accused Ikram Rabbani from Rawalpindi and showed it in the area of Surya Khel, District Nowshera, regarding which he also made false entry in the daily diary, hence, recommended him for awarding major punishment.

He was served with Final Show Cause Notice, to which, he submitted his reply. His reply was perused by the District Police Officer, Nowshera and found unsatisfactory.

The delinquent Officer was heard in Orderly Room on 13.03.2024 by the District Police Officer, Nowshera during which, he failed to advance any cogent reasons in his defense, therefore, awarded him major punishment of dismissal from service vide OB: No. 150 dated 20.03.2024.


Appellant

46

From the perusal of the enquiry file and service record of the appellant, it has been found that allegations leveled against the appellant have been proved and he could not produce any cogent justification in rebuttal rather the allegations of misrepresenting the actual arrest of the accused Ikram Rabbani from Rawalpindi and showed it in the area of Surya Khel, District Nowshera, regarding which he also made false entry in the daily diary have been proved without any shadow of doubt. Being a member of disciplined/uniformed force, the involvement of the delinquent Officer in such like activities brought a bad name for entire Police force in the eyes of general public, besides affecting other members of Police force. Hence, the retention of appellant in Police Department will stigmatize the prestige of entire Police Force. Besides, during the course of personal hearing, he could not present any cogent justification to warrant interference in the order passed by the competent authority. However, keeping in view, the poor financial back ground and length of the service of the appellant the undersigned is constrained to take a lenient view of the misconduct of appellant.

Keeping in view the above, I, Najeeb-Ur-Rehman Bugvi, PSP Regional Police Officer, Mardan, being the appellate authority, hereby modify the major punishment of dismissal service vide OB: No. 150 dated 20.03.2024 and convert the same into major punishment of compulsory retirement from service.

Order Announced.

  
(Najeeb-Ur-Rehman Bugvi) PSP  
Regional Police Officer,  
Mardan.

No. \_\_\_\_\_ /ES, Dated Mardan the \_\_\_\_\_ /2024.

Copy forwarded to District Police Officer, Nowshera, for information and necessary action v/r to his office Memo: No. 726/PA dated 04.04.2024. His Service Record is returned herewith.

(\*\*\*\*\*)

Attested  
  
Appellant

CP No. 12689/SB  
Dt 7/5/24

Annex - T

47

بخدمت جناب انسپکٹر جنرل صاحب آف پولیس خیبر پختونخوا

درخواست براد نظر ثانی بابت معطلی سزا اور دوبارہ بحالی نوکری

جناب عالی

سائل کو جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب ضلع نوشہرہ نے بمقدمہ 524/2023/7م 419/420/467/471/472 تپ تھانا کوڑہ خٹک میں ناقص تفتیش کرنے کے الزام میں بحوالہ آرڈر انگریزی نمبر 570-75/PA مورخہ 20/3/2024 کو محکمہ پولیس سے برخاست کرنے کے احکامات جاری فرمائیں اس بابت مسائل نے جناب ریجنل پولیس آفیسر صاحب مردان کو درخواست اپیل دربارہ بحالی نوکری کر کے جو کہ جناب ریجنل پولیس آفیسر صاحب مردان مسائل کے خلاف انکو آڑی سے متعلق نہ ہو کہ مسائل کی سزا میں کی کر کے مسائل کو محکمہ پولیس سے جبری ریٹائر کرنے کا حکم بحوالہ آرڈر 1126/ES مورخہ 30/4/2024 کو جاری کر کے مقدمہ ہذا کی نسبت تفصیل ذیل عرض پیش کرتا ہوں۔

کہ مقدمہ علت 524 بالہ کے مدعی فضل قادر سکنہ خیر آباد نے برائے اندراج مقدمہ عدالت جناب مرزا محمد کاشف ASJ صاحب نوشہرہ کو درخواست زبردفعہ 22A ضف دائر کر کے موقف اختیار کیا۔ کہ سائل کی خیر آباد میں ماربل ٹائلز اور گرائنڈنگ مل کا کاروبار ہے اور پورے پاکستان میں چلائی کرتا ہے۔ سائل خیر آباد میں ایک نئی گرائنڈنگ فیکٹری لگانے کا خواہشمند تھا جس کیلئے سائل نے مسی اکرام ربانی کے ساتھ مورخہ 28/9/2020 کو خیر آباد میں مشینری فراہم کرنے کیلئے پہلے سے دی گئی کوٹیشن کے مطابق معاہدہ کیا اور اس سلسلے میں ملزم بالا کو مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000 روپے ادائیگی کی لیکن اکرام ربانی نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کے باوجود بھی مشینری فراہم نہ کی۔ جس پر مورخہ 7/6/2023 کو عدالت بالہ نے کاروائی 154 ضف (اندراج مقدمہ) کا حکم صادر فرما کر حفیظ خان ASI نے حسب الحکم عدالت علت 524 مورخہ 14/6/2023 جرم 419, 420 تپ تھانا کوڑہ درج رجسٹر ہو کر بغرض تفتیش حوالہ من IHC کیا گیا۔

من IHC نے مقدمہ میں تفتیش شروع کر کے دیگر لوازمات تفتیش پورا کرنے کے علاوہ "اکرام ربانی انڈیکو" کی معلومات FBR سے حاصل کی جن کے مطابق اس نام کی کوئی کمپنی ان کیساتھ رجسٹرڈ نہ تھی جس پر حسب رائے جناب DPP صاحب مقدمہ میں جرم 467, 471, 472 تپ کی ایذا دہی عمل میں لائی گئی۔ مورخہ 16 جون 2023 کو اکرام ربانی بمقام سوریاء خیل نوشہرہ میں حسب ضابطہ گرفتار کیا گیا (جس کی تصدیق اکرام ربانی 16 جون کی CDR حاصل کر کے کی جاسکتی ہے) جسکو بغرض حصول حراست مقام عدالت میں پیش کر کے جو درخواست حراست نام منظور ہو کر ملزم (درخواست گزار) داخل جیل کیا گیا من IHC نے حراست کے حصول کیلئے عدالت DSJ صاحب کو نظر ثانی درخواست حسب ضابطہ پیش کر کے جس پر ملزم کی 01 ایک یوم حراست پولیس منظور کی گئی ملزم کو اگلے روز مزید حراست کیلئے عدالت میں پیش کر کے جو مزید حراست نہ ملکر ملزم نے اپنے بیان زبردفعہ 161 ضف میں تسلیم کیا کہ میرا مدعی فضل قادر کیساتھ مشینری لگانے کا معاہدہ ہوا تھا جس کی بنا پر میں نے مدعی سے مختلف اوقات میں مبلغ 120,00000 بھی وصول کئے لیکن بعدہ بوجہ کہ COVID-19 بروقت مشینری فراہم نہ کر سکا ہوا اور اب مشینری کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی بنا پر میں مشینری فراہم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔

دوران تفتیش یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملزم بالہ نے 3 عدد شناختی کارڈ بنوائے جن میں ملزم علیہ بھی بدلتا رہا ہے۔ یعنی ایک کارڈ میں داڑھی رکھی ہوئی تصویر ہے اور دیگر میں جامت والی تصاویر ہے جبکہ تینوں شناختی کارڈ پر ملزم کے دستخط علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ ملزم کے خلاف مقدمات (1) علت 2805/2018 م 420/467/468/471 تپ تھانا وزارت خان ضلع راولپنڈی۔ (2) علت 83/2019 م 25-D نیلی گراف ایکٹ تھانا سیول لائن ضلع راولپنڈی بھی درج رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جو ملزم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔

جہاں تک اکرام ربانی کو راولپنڈی صوبہ پنجاب سے گرفتاری کی بات ہے تو اندر میں سلسلہ قبل ازیں بھی انکو آڑی ہو کر انکو آڑی افسر نے مسائل کو بے گناہ قرار دیا ہے مزید یہ کہ اکرام ربانی اور مسائل دونوں کے CDR (بوقت گرفتاری اکرام ربانی) حاصل کر کے جس کے مطابق میری اور اکرام ربانی دونوں کی لوکیشن سوریاء خیل نوشہرہ کی ہے۔

مسائل نے اپنی پوری نوکری دیانت داری سے سرانجام دی ہے مقدمہ بالہ میں بھی حقائق کے عین مطابق تفتیش عمل میں لائی ہے کسی کی جانب داری نہ ہی کی ہے جملہ شواہد شامل مشل کئے گئے ہیں اس کے علاوہ سائل نے محکمہ پولیس میں کم و بیش 22 سال نوکری بخیر و خوبی مکمل کر لی ہے اور کبھی بھی افسران بالہ صاحبان نے کسی قسم کی حکمانہ سزا نہیں دی ہے خلاف جملہ لگائے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہے مسائل کو دوران انکو آڑی صاف سوال و جواب کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے علاوہ ازیں مسائل کو کبھی بھی افسران بالہ صاحبان نے کسی قسم کی حکمانہ سزا نہیں کی ہے سائل کی نوکری کے علاوہ دیگر ذریعہ امدان موجود نہ ہے سائل کی بے گناہی سابقہ بے داغ نوکری اور گھریلو ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کی سزا پر نظر ثانی اور مسائل کو واپس محکمہ پولیس اپنے عہدہ پر بحال کرنے کے احکامات جاری فرما کر مشکور فرمائیں۔

Appellations

العبد

0314.9896876

آصف غنی سابقہ IHC محکمہ پولیس ضلع نوشہرہ

Proprietor  
@

محترم صدر ہونور،  
 H.H. Akhtar  
 H.H. Akhtar  
 W.P. No. 23/S/2024  
 ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے پیشہ سے ہٹ جائیں اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں اور ان کے پاس پاسپورٹ کے لئے کوئی بھی دستاویز نہیں ہے۔ یہ درخواستیں ختم کرنے اور ان کے پاس پاسپورٹ کے لئے کوئی بھی دستاویز نہیں ہے۔ یہ درخواستیں ختم کرنے اور ان کے پاس پاسپورٹ کے لئے کوئی بھی دستاویز نہیں ہے۔ یہ درخواستیں ختم کرنے اور ان کے پاس پاسپورٹ کے لئے کوئی بھی دستاویز نہیں ہے۔  
 Rigamulla  
 H.H. Akhtar  
 مقدمہ نمبر: 23/S/2024

<p align="center"><b>پشاور ایپلینٹ</b></p>	
<p><b>Appellant</b>                  نام: Rigamulla                  پتہ: H.H. Akhtar                  تعلقہ: Rawalpindi                  ڈسٹرکٹ: District Capital                  پلاٹ نمبر: 23/S/2024</p>	<p><b>Asif Ghani</b>                  The District Police Office                  and others</p>

پشاور ہائیکورٹ کے سامنے رجسٹریشن نمبر: 41973

**Before the Honble Chairman, KPK Service Tribunal, Peshawar**

Rigamulla  
 ڈسٹرکٹ: Rawalpindi  
 پتہ: H.H. Akhtar  
 تعلقہ: District Capital  
 پلاٹ نمبر: 23/S/2024

03005965843  
 6C-69-0050  
 PESHAWAR BAR ASSOCIATION  
 QR Code